



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ ایون ٹورنامنٹ کے ساتویں راؤنڈ کا تیسرا روز مکمل

- ناردرن کے نعمان علی کے 5 شکار
- بلوچستان اور سنٹرل پنجاب کے درمیان میچ ڈرا کی جانب گامزن
- خیبرپختونخوا کے اشفاق احمد نے ایونٹ میں چوتھی سنچری داغ دی

لاہور، 13 نومبر 2019ء:

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ناردرن کو دوسری اننگز میں سندھ کے خلاف مجموعی طور پر 255 رنز کی برتری حاصل ہوگئی ہے جبکہ اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوچکے ہیں۔ ناردرن کے 408 رنز کے جواب میں سندھ کی ٹیم پہلی اننگز میں 326 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ سندھ کی جانب سے فواد عالم نے سنچری اور انور علی نے نصف سنچری اسکور کی۔ فواد عالم 107 اور انور علی 69 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 126 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ ناردرن کے کپتان نعمان علی نے 58 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ 82 رنز کی سبقت سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی ناردرن کی ٹیم نے دن کے اختتام پر 2 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنالیے ہیں۔ اوپنر نیشان ملک 96 اور پہلی اننگز میں ڈبل سنچری اسکور کرنے والے فیضان ریاض 23 کے انفرادی اسکور سے کھیل کے چوتھے روز کا آغاز کریں گے۔

ادھر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بلوچستان اور سنٹرل پنجاب کے درمیان میچ ڈرا کی جانب گامزن ہے۔ بلوچستان کے 450 رنز کے جواب میں سنٹرل پنجاب نے پہلی اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنالیے ہیں۔ سنٹرل پنجاب کی ٹیم تاحال پہلی اننگز میں 195 رنز کے خسارے کا شکار ہے۔ میزبان ٹیم کی جانب سے عمر اکمل اور عثمان صلاح الدین نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ عمر اکمل 78 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ عثمان صلاح الدین 74 اور ظفر گوہر 8 رنز بناکر یز پر موجود ہیں۔ اس سے قبل سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 28 رنز سے کھیل کا دوبارہ آغاز کیا تو سلمان بٹ 47 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔ تاحال سنٹرل پنجاب کی جانب سے اننگز میں سب سے لمبی شراکت عمر

اکمل اور عثمان صلاح الدین کے درمیان رہی دونوں نے پانچویں وکٹ کے لیے 124 رنز جوڑے۔

دوسری جانب ایبٹ آباد اسٹیڈیم میں جاری میچ میں سدرن پنجاب کی ٹیم خیبرپختونخوا کے خلاف تاحال دوسری اننگز میں 64 رنز کے خسارے کا شکار ہے۔ سدرن پنجاب کے 338 رنز کے جواب میں خیبرپختونخوا کی ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 417 رنز بنا کر اپنی پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی۔ مڈل آرڈر بلے باز اشفاق احمد نے 143 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 18 چوکے اور 1 چھکاشامل تھا۔ ریحان آفریدی اور ذویب خان کے درمیان چھٹی وکٹ کے لیے 127 رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم ہوئی۔ ریحان آفریدی 84 اور ذویب خان 63 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ 79 رنز کے خسارے سے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کرنے والی سدرن پنجاب کی ٹیم نے کھیل کے اختتام پر دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان پر 15 رنز بنالیے ہیں۔ میچ کے آخری روز سمیع اسلم 11 اور عمر صدیق 4 کے انفرادی اسکور سے کھیل کا آغاز کریں گے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk